



سرکاری  
پत्र

سرکاری پत्र، سندھ، گورنمنٹ سٹی

سرکاری پत्र، سندھ، گورنمنٹ سٹی

سرکاری پत्र، سندھ، گورنمنٹ سٹی

(IUL)GZS/2026/97

سرکاری پتر، سندھ، گورنمنٹ سٹی

31/5/2026

سرکاری پتر

سرکاری پتر، سندھ، گورنمنٹ سٹی



	11 مئی 2026	تاریخ:		
	دس بجے	وقت:		
	10:00	وقت:		



(س) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک بچہ پیدا کیا ہے جس کا نام محمد رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: "میں نے تم کو اس بچے کی خبر دی ہے، اب تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔"

(س) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں نے تم کو اس بچے کی خبر دی ہے، اب تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔"

(ع) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں نے تم کو اس بچے کی خبر دی ہے، اب تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔"

6. نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک بچہ پیدا کیا ہے جس کا نام محمد رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: "میں نے تم کو اس بچے کی خبر دی ہے، اب تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔"

7. نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں نے تم کو اس بچے کی خبر دی ہے، اب تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔"

8. نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں نے تم کو اس بچے کی خبر دی ہے، اب تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔"

(س) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں نے تم کو اس بچے کی خبر دی ہے، اب تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔"

(س) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں نے تم کو اس بچے کی خبر دی ہے، اب تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔"

9. نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں نے تم کو اس بچے کی خبر دی ہے، اب تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔"















9. מטרתה של הסכמה וולונטרית ונכונה וברורה היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

10. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

11. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

12. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

13. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

14. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

15. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

16. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

17. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

18. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.

19. מטרתה של הסכמה מפורשת היא להבטיח את זכויותיהם של המטופלים, וזאת באמצעות הסכמה מפורשת, ברורה, נכונה וולונטרית.



سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4

جَزْءُ الْفَتْحِ

1 - جَزْءُ الْفَتْحِ

سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4		
سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ	✓	#
سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4		
		1. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		2. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		3. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		4. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		5. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		6. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		7. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4		
		8. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		9. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		10. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		11. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4		
		12. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		13. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		14. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		15. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4		
		16. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)
		17. سَوَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةِ - 4 (جَزْءُ الْفَتْحِ 2)





4 - قسط				
ذریعہ کی معلومات کے ذریعے				
1. قسطوں کی تعداد، فراہم کنندہ کی معلومات اور سہولت کے ذریعے				
#	فراہم کنندہ کی سہولت	فراہم کنندہ کی سہولت	رقم	قسطوں کی تعداد (تقریباً)
1			28 قسطوں میں 2026	
			31 قسطوں میں 2026	
			30 قسطوں میں 2026	
			ذریعہ	
			رقم	
سہولت				
2. 2025 میں فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی				
"نامہ رقم نامہ" کے ذریعے فراہم کردہ سہولتوں کی				
			ذریعہ	

نوٹ:

1. قسطوں کی تعداد میں 3 قسطوں کی فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی۔
2. قسطوں کی تعداد میں 3 قسطوں کی فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی **فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی**۔  
**فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی** (نوٹ: نامہ رقم نامہ کی فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی 1 سہولتوں کی فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی)۔  
  - فراہم کنندہ کی سہولت
  - فراہم کنندہ کی سہولت
3. 2025 میں فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی (نامہ رقم نامہ کی فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی)۔  
 (نامہ رقم نامہ کی فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی)۔
4. فراہم کنندہ کی سہولتوں کی فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی 20 فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی۔  
 فراہم کنندہ کی سہولتوں کی فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی 100 فراہم کنندہ کی فراہم کردہ سہولتوں کی۔



6 - ބަންދު

ފޯމްގެ ގޮތުން ބަންދުގެ ޖަހާނީ ބަންދުގެ ޖަހާނީ

Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To: .....  
[name & address of Purchaser]  
.....  
.....

[name of Contract]

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, .....[name and address of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") shall deposit with ..... [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of .....[amount of Guarantee] .....[amount in words].

We, the ..... [Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to ..... [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding \*..... [amount of Guarantee]..... [amount in words].

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between .....[name of Purchaser] and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

\* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until .....[name of Purchaser] receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,

SIGNATURE AND SEAL: .....

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION .....

